

44990 - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمر میں فرق کے باوجود

شادی میں حکمت

سوال

میرے ایک نصرانی دوست نے یہ سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نوبرس کی عمر میں شادی کرنے میں کیا حکمت تھی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ برس کے ہونے والے تھے ، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس عمر میں ازدواجی تعلقات قائم کیے تھے یا نہیں؟؟
حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس کے رد کا علم نہیں -

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی ، اور صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کنواری تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور جب ان سے ازدواجی تعلقات قائم کیے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر نوبرس تھی -

اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بیویوں سے زیادہ محبوب تھیں ، ان کی برات ساتوں آسمانوں سے نازل ہوئی -

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ اور علم رکھنے والے تھیں ، بلکہ مطلقاً امت اسلامیہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور علم رکھنے والی تھیں ، بڑے بڑے صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کرتے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے -

ان کی شادی کا قصہ یہ ہے کہ : نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اس لیے کہ وہ ان کی تائید اور مدد کیا کرتی تھیں ، اور ہر معاملہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں ، اسی لیے اس سال کو جس میں وہ فوت ہوئی اسے عام الحزن (یعنی غموں کا سال) کہا جاتا ہے -

پھر ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی یہ بڑی عمر کی تھیں

اور خوبصورت بھی نہیں تھیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف غمواری کے لیے شادی کی تھی کیونکہ اس کا خاوند فوت ہوچکا تھا ، اور یہ مشرک قوم کے درمیان رہائش پذیر تھیں ۔

اس کے چار سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس برس سے زیادہ تھی ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کرنے میں مندرجہ ذیل حکمتیں ہوسکتی ہیں :

اول :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی خواب دیکھی تھی ، صحیح بخاری میں حدیث مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا :

(خواب میں مجھے تو دوبار دکھائی گئی تھی ، میں نے تجھے ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی دیکھا ، کہا گیا کہ یہ تیری بیوی ہے جب میں کپڑا ہٹاتا ہوں تو دیکھا کہ تو ہے ، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ اسے پورا کرے گا) صحیح بخاری حدیث نمبر (3682) ۔

اور کیا یہ اپنے ظاہر پر نبوت کی خواب ہے یا اس کی کوئی تاویل ہوگی علماء کرام کے مابین اس میں اختلاف ہے ، جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے ۔ دیکھیں فتح الباری (9 / 181) ۔

دوم :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچپن میں جو ذہانت اور سمجھداری کی علامات اور نشانیاں دیکھیں تو اس بنا پر ان سے شادی کرنا پسند فرمائی تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کو دوسروں کی بنسبت صحیح اور بہتر طریقے سے نقل کرسکے ۔

اور پھر حقیقتاً ہوا بھی ایسے ہی جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے بڑے صحابہ کرام کے لیے مرجع بن گئی اور صحابہ کرام اپنے احکام اور ہر معاملہ کے بارہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کیا کرتے اور پوچھا کرتے تھے ۔

سوم :

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ، کہ انہوں نے دعوت حق کے راستے میں جو ذہنیتیں برداشت کی اور ان پر صبر و تحمل سے کام لیا ، لہذا علی الاطلاق انبیاء کے بعد وہ سب لوگوں سے زیادہ پختہ ایمان والے اور سچے یقین والے تھے ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی اگر ان میں نظر دوڑائی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کم عمر بھی ہے اور بوڑھی بھی اور سخت قسم کے جھگڑالو دشمن کی بیٹی بھی اور جگری اور دلی دوست کی بیٹی بھی -

ان میں ایسی بھی ہے جو یتیموں کی پرورش بھی کرنے والی ہے ، اور ان میں ایسی بھی ہے جو نماز اور روزے کثرت سے رکھنے میں دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے --- وہ سب انسانی افراد کے لیے نمونہ اور آئڈیل تھیں ، ان کے ذریعہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ایسی یکسو تشریح دی جس میں بشریت کے ہر معاملے اور کام سے تعامل اور برتاؤ کی کیفیت بیان کی گئی ہے -

دیکھیں : السیرة النبویة فی ضوء المصادر الاصلیة صفحہ (711) -

اور رہا مسئلہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صغر سنی اور اس کے بارہ میں آپ کے اشکال کا تو ہم گزارش کرینگے گے کہ : آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم علاقہ جزیرہ عربیہ میں رہتے تھے اور وہیں پرورش بھی پائی ، اور غالباً گرم علاقوں میں سن بلوغ بھی جلد آجاتا ہے جس کی بنا پر شادی بھی جلد ہو جاتی ہے ، جزیرہ میں بھی عہد قریب تک یہی حالت تھی ، اور پھر عورتوں میں جسم کے نشونما کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں -

اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے ، جب آپ غور کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی بلکہ ان کے علاوہ باقی سب بیویاں ایسی تھیں جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی اب یا تو وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ ، اس طرح وہ طعن جو کچھ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنے کا مقصد صرف عورتوں کی شہوت اور ان سے نفع اٹھانا تھا زائل ہو جاتا ہے -

کیونکہ جس شخص کا یہ مقصد ہو تو وہ اپنی ساری بیویاں یا اکثر ایسی اختیار کرتا ہے جو انہتائی خوبصورت ہوں اور ان میں رغبت کی ساری صفات پائی جائیں ، اور اسی طرح اور حسی اور زائل ہونے والے معیار بھی -

کفار اور ان کے پیروکاروں کا اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین اور شریعت میں طعن کرنے سے بالکل عاجز آچکے ہیں اب انہیں کچھ نہیں ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں طعن کرنا شروع کر دیا اور کوشش کرتے ہیں کہ خارجی امور میں طعن کیا جائے ، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور اور دین کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مناتے رہیں -

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے -

مزید تفصیل کے لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زاد المعاد (1 / 106) کا مطالعہ کریں -



والله اعلم .